



سوال

(84) اس عورت کا حکم جو ایام حیض میں دو دنوں کے بعد ہی پاک ہو جاتی ہے اور دو دنوں کے بعد پھر خون جاری ہو جاتا ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کبھی عورت اپنے حیض کے ایام میں خون دیکھتی ہے پھر دو دن کے بعد خون رک جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر پاک ہو جاتی ہے پھر ایک یا دو دن کے بعد اسے دوبارہ خون جاری ہو جاتا ہے۔ کیا پہلے دو دنوں کا خون حیض شمار ہوگا اور کیا اس پر نماز پڑھنا ضروری ہے یا وہ کیا کرے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

وہ دو دن جن میں اس نے اپنے حیض کی مقررہ مدت کے دوران خون دیکھا وہ حیض کا ہی خون ہے اور اس کے لیے ان دو دنوں میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ دو دن جن میں اس نے طہر دیکھا تو گزارش یہ ہے کہ وہ ان دو دنوں میں غسل کرنے کے بعد نماز ادا کرے گی۔ اور بعد کے دو دن (نماز روزہ سے) میٹھی رہے گی کیونکہ ان دنوں میں آنے والا خون حیض کا ہی خون ہے۔ (سعودی فتویٰ کمیٹی)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 126

محدث فتویٰ